

Prime Minister participates in virtual summit of Quad leaders

March 03, 2022

وزیر اعظم نے، کواڈ لیڈروں کی ورچوئل سمٹ میں شرکت کی

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کیشدا کے ساتھ کواڈ لیڈروں کی ورچوئل سمٹ میں شرکت کی۔

میٹنگ میں ستمبر 2021 کواڈ سربراہ کانفرنس کے بعد سے کواڈ کے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ لیڈر وں نے اس سال کے آخر میں جاپان میں سمٹ کے ذریعہ ٹھوس نتائج حاصل کرنے کی غرض سے تعاون بڑھانے سے اتفاق کیا۔

وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ کواڈ کو بھارت بحرالکاہل خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے اپنے اہم مقصد پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے۔ انہوں نے انسانی ہمدردی، آفات کے دوران راحت، قرض کے استحکام، سپلائی چین، صاف توانائی، کنکٹوٹی اور صلاحیت سازی جیسے شعبوں میں کواڈ کے اندر تعاون کی ٹھوس اور عملی شکل کے لئے بھی اپیل کی۔

میٹنگ میں یوکرین کے حالات پر بھی تبادلہ خیال ہوا نیز اس کے انسانی مضمرات پر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارت کاری کے راستے کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔

لیڈروں نے جن دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا، ان میں جنوب مشرقی ایشیا، بحرہند خطے اور بحرالکاہل جزائر کی صورتحال شامل ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ چارٹر، بین الاقوامی قانون اور علاقائی یکجہتی کے علاوہ اقتدار اعلیٰ کے لئے احترام پر کاربند رہنے کی اہمیت کو دوہرایا۔

لیڈروں نے جاپان میں آئندہ لیڈروں کی چوٹی کانفرنس کے لئے ایک آرزومند ایجنڈے کے لئے کام کرنے اور ایک دوسرے سے لگاتار ربط رکھنے سے بھی اتفاق کیا۔

نئی دہلی

03 مارچ، 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.